

جامعہ ملیہ اسلامیہ: یو پی ایس سی کی تیاری کر رہے طلباء میں کے لئے ورچوئل ماک انٹرویوز کا انعقاد

کوویڈ 19 کی تباہی کو دیکھتے ہوئے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے رہائشی کوچنگ اکیڈمی (آر سی اے) اپنے رجسٹرڈ طلباء کے لئے ورچوئل ماک انٹرویوز لے رہی ہے۔ مجموعی طور پر آر سی اے کے 60 طلباء نے یو پی ایس سی میوز امتحانات -2018 میں کامیابی حاصل کی تھی جن میں سے 48 کمیشن کے ذریعہ لئے گئے امتحان / انٹرویو میں شامل ہوئے تھے، باقی 12 امیدوار کوڈ 19 کی وجہ سے انٹرویو نہیں نہیں دے سکے تھے اب ان کا انٹرویو 20 تا 29 جولائی 2020 کے درمیان ہوگا۔

ورچوئل ماک انٹرویو میں مختلف قومی اور بین الاقوامی امور پر طلباء کی رہنمائی کے لئے ممتاز سرکاری ملازمین اور ماہرین تعلیم پینل کے ممبر کی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں۔ یہ حضرات سول سروس کے خواہشمند افراد کو قابل اعتماد تجاویز اور مشورے بھی دیتے ہیں تاکہ طلباء پوری ہمت اور اعتماد کے ساتھ یو پی ایس سی بورڈ کا سامنا کر سکیں۔

اس مرتبہ پینل میں جو باوقار ہستیاں شامل ہیں ان میں مسٹر سراج حسین آئی اے ایس (ریٹائرڈ)، مسٹر شاردہ پرساد آئی پی ایس (ریٹائرڈ)، محترمہ رشیدہ حسین آئی آر ایس، مسٹر اندراویر یادو آئی اے ایس (ریٹائرڈ)، مسٹر مہیش مشرا آئی پی ایس (ریٹائرڈ)، مسٹر ایس ایس خان آئی آر ایس (ریٹائرڈ)، جاوید احمد آئی پی ایس (ریٹائرڈ)، مسٹر خورشید گنائی آئی اے ایس (ریٹائرڈ) مسٹر ویوک کاتجو آئی ایف ایس (ریٹائرڈ) اور پروفیسر یو۔ ایم امین کے نام نامی ہیں۔

پروفیسر نجمہ اختر، وائس چانسلر، جامعہ ملیہ اسلامیہ ماک انٹرویوز کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ انہوں نے پینل کے ممبروں بات چیت بھی کی اور انہیں آر سی اے، جے ایم آئی کی کامیاب کوششوں سے آگاہ کیا۔ وائس چانسلر نے پینل ممبران کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنا وقت جامعہ کے طلباء کے لیے نکالا اور طلباء کو بیش قیمتی نکات سے نوازا۔ انہوں نے آنریری ڈائریکٹر تنویر ظفر علی کی کاوشوں کی بھی تعریف کی اور ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر مسٹر محمد طارق، آر سی اے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی کوششوں کو بھی سراہا۔

آر سی اے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چوبیس (24) طلباء نے 15 جولائی 2020 سے شروع ہونے والے اترپردیش پبلک سروس کمیشن (یو پی ایس سی) انٹرویو کے لئے بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ آر سی اے اسی پینل کے ساتھ ان کے لئے بھی ورچوئل ماک انٹرویو کا اہتمام کر رہی ہے۔ حال ہی میں جموں و کشمیر کے پی ایس سی امتحان میں آر سی اے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 14 طلباء کا انتخاب عمل میں آیا۔

آر سی اے کا قیام 2010 میں یو جی سی نے سنٹر فار کوچنگ اینڈ کیریئر پلاننگ (سی سی اینڈ سی پی) جامعہ ملیہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عمل میں آیا تھا، جس کا مقصد ایس سی، ایس ٹی، خواتین اور اقلیتوں کے طلباء کو شہری خدمات اور دیگر مسابقتی امتحانات کے لئے مفت کوچنگ اور رہائشی سہولیات فراہم کرنا تھا۔ سینٹر اپنے قیام کے اولین دنوں سے ہی اطمینان بخش کام کیا اور اس شعبے میں ملک بھر میں اپنے بہترین کارکردگی کی وجہ سے معروف ہوئی۔ مسابقتی ماحول، پیشہ ور اساتذہ، جامعہ کے اعلیٰ ذمہ داران کا تعاون، مضبوط انٹری ٹیسٹ، اور باقاعدہ کلاسز اور ٹیسٹ سیریز سینٹر کی معمولی کامیابیوں کے کچھ عوامل ہیں۔

2010-11 سے لیکر اب تک تقریباً 240 طلباء نے کامیابی کے ساتھ ہندوستانی سول سروسز میں شمولیت اختیار کی ہے جن میں بہت سے آئی اے ایس ، آئی ایف ایس اور آئی پی ایس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 250 سے زائد طلباء کا انتخاب بھی متعدد دیگر وسطی اور ریاستی خدمات یعنی بینک پی او، اے پی ایف، آر بی آئی (گریڈ بی)، آئی بی ، سی اے پی ایف ، پی سی ایس وغیرہ میں کامیابی حاصل کی ہے۔

احمد عظیم
پی آر او - میڈیا کوآرڈینیٹر